

## FAQs انکوائری کی گنجائش سے متعلق روداد کے اجراء کے بارے میں

سوال	جواب
انکوائری کیا ہے؟	کارونر اس بارے میں مزید پتہ کرنے کے لیے انکوائری کرتا ہے کہ کسی فرد کی وفات کہاں، کب اور کیسے ہوئی۔ انکوائری سے کارونر کو ایسی سفارشات اور تبصرے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جو مستقبل میں اس سے ملتی جلتی اموات پیش آنے سے روک سکتی ہوں۔
روداد کیا ہے؟	جج یا کارونر کا ایک باضابطہ بیان۔ یہ کوئی کام کرنے کا آرڈر، عدالت میں جو کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔
پوچھ تاچھ کیا ہے؟	کارونیل انکوائری کی انجام دہی میں، اگر کارونر کو بذات خود گواہ کی بات سننے کی ضرورت پڑتی ہے تو، وہ عدالت میں ایک سماعت کا اہتمام کریں گے، جس کو پوچھ تاچھ کہا جاتا ہے۔ جس فرد کی وفات ہوئی ہے اس کی فیملیز، دلچسپی رکھنے والے فریق اور بعض اوقات عوام الناس پوچھ تاچھ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔
سماعت کیا ہے؟	ایک قانونی کارروائی جس میں قانون یا حقیقت کے کسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے اور فریقین عدالت کے سامنے شہادت اور عرضیاں پیش کرتے ہیں۔
انکوائری کی گنجائش 'کا' کیا مطلب ہے؟	یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی چھان بین کارونر کے ذریعے انکوائری میں کی جائے گی۔
روداد میں ذکر ہے کہ عدالتی سماعت دسمبر میں ہوگی۔ کیا یہ 2021 کوئی پوچھ تاچھ ہے؟	جی نہیں۔ یہ ایک ابتدائی عدالتی سماعت ہے جس کا اہتمام انکوائری کی مجوزہ گنجائش کے بارے میں فیملیز اور 'دلچسپی رکھنے والے فریقین' کی آراء سننے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
میں روداد اور اس کی معنویت کو سمجھنے میں	اگر آپ کے پاس اپنا کوئی فنڈ یافتہ وکیل ہے تو اس سے بات کریں۔ وہ آپ کی مدد اور آپ کے لیے روداد کی جو معنویت ہے اس کی وضاحت کر پائیں گے۔

سوال	جواب
<p>مدد کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟</p>	<p>اگر آپ شہید کے فیملی ممبر ہیں یا بندوق سے لگنے والے زخم کے شکار ہیں، اور آپ نے ابھی تک وکیل بحال نہیں کیا ہے تو، آپ اب بھی فنڈ یافتہ وکیل سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ فنڈ یافتہ وکیل سے مدد حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات اس پتے سے دستیاب ہیں</p> <p><a href="https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process/legal-support/">https://coronialservices.justice.govt.nz/masjid-attacks-coronial-process/legal-support/</a></p> <p>متبادل طور پر، آپ کارونر کے دفتر سے <b>0800 88 88 20</b> پر رابطہ کر یا <a href="mailto:coronial.response@justice.govt.nz">coronial.response@justice.govt.nz</a> پر کال کر سکتے ہیں۔ کارونیل آفس کا عملہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ہمارے پاس ترجمان کی اعانت دستیاب ہے۔</p>
<p>عرضی 'کیا ہے'؟</p>	<p>ایک دلیل جو عدالت کو پیش کی جاتی ہے۔ یہ تحریری یا زبانی (بولی ہوئی) ہو سکتی ہے۔</p>
<p>میں سماعت میں عرضی کس طرح دائر کر سکتا ہوں؟</p>	<p>اگر آپ نے وکیل بحال کیا ہے تو، وہ آپ کی جانب سے عرضی دائر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وکیل نہیں ہے تو، آپ خود سے عرضی دائر کر سکتے ہیں۔ آپ سماعت میں تحریری شکل میں، یا بذات خود عرضیاں دائر کر سکتے ہیں۔</p> <p>اگر آپ کو عرضی دائر کرنے کے بارے میں مزید معلومات چاہئیں تو، آپ کارونر پر رابطہ کر یا <a href="mailto:coronial.response@justice.govt.nz">coronial.response@justice.govt.nz</a> کے دفتر سے <b>0800 88 88 20</b> پر کال کر سکتے ہیں۔</p> <p>عرضی دائر کرنے کے بارے میں مزید معلومات جلد ہی دستیاب ہوں گی۔</p>

سوال	جواب
کیا میں دسمبر میں ہونے والی سماعت میں حاضر ہو پاؤں گا؟	ہم فی الحال سماعت کے مدنظر لاجسٹک سے متعلق تفصیلات کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کا فیصلہ ہونے کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے۔
اگر میں سماعت میں حاضر ہونے پر قادر نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں اب بھی عرضی دائر کر سکتا ہوں؟	جی ہاں۔ آپ یا آپ کے وکیل سماعت سے قبل تحریری شکل میں عرضی دائر کر سکتے ہیں۔